


مُصْنَفُينِ صَاحِبَتَه

اورات کی

شَرِائِطِ اخْذِ وَ قِبْوَلٍ

مولانا حافظ محمد عابد شاقارادی سعیدی

شیخ الحثیث و ناظم العیام شاعر نظریہ طویلہ ابو



K-1

83

6631

فِي فَعْلَم



مَكَتبَةُ

فِي فَعْلَم



مَكَتبَةُ

فِي فَعْلَم

نَهْرُ الصَّالِحِيَّاتِ كَلَمَارَى رَبِّيَّنَهَا

نَجْدَلَنَفْعَلَمْ لَمَدْلَمْ دَلَرَلَمْ

مُضْفِلِ صحَّة




اورات کے

شر اڑا خذ و فیوں

مولانا حافظ محمد عبّاس تزار قادری سیدی

شیخ احمدیث و ناظم تعلیمات جامعہ فنا یہ شویہ لاہور



مکتبہ فیض عالم لاہور

جملہ حقوق محفوظ ہیں

| | | |
|---|-----------|---|
| نام کتاب | ----- | مصنفین صحابہ اور ان کی شرائط اخذ و قبول |
| مصنف | ----- | مولانا حافظ محمد عبدالستار سعیدی |
| شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور | ----- | شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور |
| پیشکش | ----- | مجلس علماء نظامیہ، لاہور |
| پروف ریٹینگ | ----- | محمد رضا احسان قادری |
| کمپوزنگ | ----- | ایمان گرافسکس، لاہور |
| ناشر | ----- | محمد افضل عطاری |
| اشارعت اولی | ----- | اگست 2007ء / رب جب 1428ھ |
| صفحات | 48 | ----- |
| تعداد | 1100 | ----- |
| قیمت | 25/- روپے | ----- |

ملنے کے پتے:

مکتبہ اعلیٰ حضرت دربار مارکیٹ، لاہور
میلاد پبلی کیشنز دربار مارکیٹ، لاہور

مکتبہ فیض عالم

لاہور - پاکستان، 0300-4635972

فہرست

| صفحہ نمبر | عنوان | نمبر شمار |
|-----------|----------------------|-----------|
| 4 | | تمہید |
| 7 | تعارفِ امام بخاری | -1 |
| 20 | تعارفِ امام مسلم | -2 |
| 29 | تعارفِ امام ترمذی | -3 |
| 35 | تعارفِ امام ابو داؤد | -4 |
| 40 | تعارفِ امام نسائی | -5 |
| 44 | تعارفِ امام ابن ماجہ | -6 |
| 48 | ماخذ و مراجع | * |



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

مُتَهَيِّدٌ

بے شک قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور تمام قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے مفصل و مبین ہے۔ کوئی آیت بلکہ کوئی لفظ بھی کلام اللہ کا ایسا نہیں جس سے مرادِ الہی کے سمجھنے میں حضور علیہ السلام کو کسی نوعیت کا کوئی اشتباہ واقع ہوا ہو۔ لیکن ہر شخص کا محض قرآن مجید کو سننے سے مرادِ الہی کی تفصیلات و تشریحات کو سمجھ لینا ممکن نہیں۔ بلکہ دوسروں کو کتاب اللہ کی تعلیم دینا اور مرادِ الہی سے آگاہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ سورۃ نحل میں ارشاد ہوتا ہے:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ
اُور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل فرمایا
تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کیلئے اس چیز کو
لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. (خل: 44)
جو ان کی طرف نازل کی گئی۔

چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کتاب اللہ کی تعلیم دی اور مرادِ الہی سے لوگوں کو آگاہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی بیان و تعلیم اور تشریح و تفصیل کو سنت و حدیث کہا جاتا ہے۔ اگر چہ مذہبین حدیث کتابی صورت میں تو عہد صحابہ میں نہیں ہوئی تھی لیکن مطلقاً کتابتِ حدیث کا انکا بھی نہیں کیا جاسکتا بلکہ بعض صحابہ کرام کا احادیث کو لکھنا ثابت ہے حتیٰ کہ ابو داؤد شریف کی ایک روایت سے تو خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا صحابہ کرام کو کتابتِ حدیث کا حکم دینا بھی ثابت ہے۔ وہ حدیث یہ ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولٍ

اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَةً فَنَهَيْتُنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا
اَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ
يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا فَامْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابَةِ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ
إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْمَأْتُ يَاصْبِعَهُ إِلَى فِيهِ فَقَالَ
اَكْتُبْ فَوَاللّٰهِ الَّذِي نُفِسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ.

(امام ابو داؤود۔ سنن ابو داؤود کتاب العلم 157/158)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حدیث بھی سنتا اس کو حفظ کرنے کی نیت سے لکھ لیا کرتا۔ قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے اس سے منع کیا اور کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بات سنتے ہو لکھ لیتے ہو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں۔ وہ کبھی حالت غصب میں کلام فرماتے ہیں اور کبھی حالت رضا میں۔ تو میں نے ان کی اس بات پر حدیث کو لکھنا ترک کر دیا۔ جب میں نے اس بات کا ذکر کرہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں کیا تو آپ نے فرمایا: سب کچھ لکھ لیا کرو اور اپنی انگشت مبارک سے وہیں اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میرے اس منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں لکھتا۔

حدیث مذکورہ بالا سے صحابہ کرام کا جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث کو لکھنا صراحتاً ثابت ہوا۔ پھر جب یہ نفوس قدسیہ (صحابہ کرام) جن کے سینے احادیث نبویہ کے خزینے تھے، دنیا سے بکثرت تشریف لے جانے لگے تو بعض اہل بصیرت تابعین کو یہ خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں ہم احادیث کے ذخیرہ عظیمہ سے محروم ہی نہ ہو جائیں۔ لہذا انہوں نے

کتابی صورت میں تدوینِ حدیث کا اہتمام کیا۔ چنانچہ دوسری صدی ہجری میں متعدد ائمہ کرام اور محدثین عظام نے احادیث کے مجموعے مرتب فرمائے۔ جن میں ربع بن صحیح (متوفی 160ھ)، موسیٰ بن عقبہ (متوفی 141ھ)، امام مالک (متوفی 179ھ)، ابن جریر (متوفی 156ھ)، امام ابو یوسف (متوفی 182ھ)، امام ابوحنیفہ (متوفی 150ھ)، امام محمد (متوفی 189ھ)، امام اوزاعی (متوفی 156ھ) اور سفیان ثوری (متوفی 161ھ) شامل ہیں۔

پھر تیسرا صدی ہجری میں تو تدوینِ حدیث کا دائرة بہت وسیع و عریض ہو گیا۔ اس صدی میں مسدود بن مسرحد (متوفی 218ھ)، اسد بن مریم البصری (متوفی 212ھ)، نعیم بن حماد الخزاعی (متوفی 228ھ)، امام احمد بن خبل (متوفی 231ھ)، اسحاق بن راھویہ (متوفی 238ھ)، عثمان بن ابی شیبہ (متوفی 239ھ) اور ابو بکر بن ابی شیبہ (متوفی 235ھ) نے احادیث نبویہ علی صاحبها الصلوۃ والسلام کو کتابی شکل میں جمع فرمایا۔ اسی صدی ہجری میں حدیث کی وہ عظیم الشان پھٹے کتابیں معرض تحریر میں آئیں جن کو "صحابہ سنتہ" کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان کتابوں یعنی صحابہ سنتہ کے مؤلفین کے حالاتِ زندگی اور اخذِ حدیث میں ان کی شرائط پر آئندہ صفحات میں تفصیل سے گفتگو کی جائے گی کیونکہ یہی میرے مقالہ کا عنوان ہے۔ یہاں صرف ان کے اسماء اور سنینِ وصال بالترتیب درج کئے جاتے ہیں۔

- امام محمد بن اسما عیل بن ابراہیم بن مغیرہ بخاری متوفی 256ھ
- امام ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری نیشاپوری متوفی 262ھ
- امام ابو دلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر السجستانی متوفی 277ھ
- امام ابو عیسیٰ محمد بن سورہ بن موسیٰ بن ضحاک الترمذی متوفی 279ھ
- امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید بن عبد اللہ ابن ماجہ قزوینی متوفی 273ھ
- امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بحر بن سنان نسائی متوفی 303ھ



تعارفِ امام بخاری

نام و نسب اور ولادت و وفات:

الامام الحافظ الحجۃ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن برذبہ البخاری
الجعفری ۱۳۱۹ھ کو بخارا میں رونق افروز دار دنیا ہوئے اور آپ کی وفات شب عید الفطر
۲۵۶ھ میں ہوئی۔ عید کے روز نماز ظہر کے بعد سمر قند سے چھ میل کے فاصلہ پر ختنگ میں دفن
ہوئے۔ آپ کے سن ولادت، سن وصال اور عمر کو بعض محدثین نے ایک شعر میں بیان کیا جس کو
شah عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف ”بستان الحدیث“ میں نقل کیا:

كان البخاري حافظاً و محدثاً

جمع الصحيح مكمل التحرير

ميلاده صدق و مدة عمره فيها
۱۹۳ھ

حميد وانقضى في نور
۲۵۶ھ

(شah عبدالعزیز محدث دہلوی۔ بستان الحدیث ص ۵۲۷)

ترجمہ: امام بخاری حافظ و محدث تھے آپ نے صحیح بخاری کو تحریر کامل کے ساتھ جمع فرمایا۔ آپ کا سن ولادت لفظ صدق، عمر مبارک لفظ حمید اور سن وصال لفظ نور کے اعداد سے لکھتا ہے۔

آپ کے اجداد:

آپ کے اجداد میں سے مغیرہ ایمان لائے۔ مغیرہ کا باپ برذبہ فارس کا باشندہ

اور جو سی تھا اور حالتِ کفر پر ہی اس کی موت واقع ہوئی۔ مغیرہ حاکم بخارا ایمان جعفی کے ہاتھ پر مشرف بے اسلام ہوئے تو ان کے ساتھ موالاتِ اسلام کی نسبت حاصل ہو گئی۔ اس لئے انہیں جعفی کہا جاتا ہے اور امام بخاری کو جعفی کہنے کی وجہ بھی یہی ہے۔

(علامہ احمد سعید کاظمی۔ مقالاتِ کاظمی 1/235)

تقویٰ و پرہیز گاری:

امام بخاری کے والد اسماعیل بن ابراہیم عظیم محدث، خوشحال اور دولتمند تھے نیز اس کے ساتھ ساتھ انتہائی صالح اور پرہیز گار بھی تھے۔ احمد بن حفص کا بیان ہے کہ میں ابو الحسن اسماعیل بن ابراہیم کی موت کے وقت ان کی خدمت میں حاضر تھا۔ وہ کہنے لگے کہ میرے پاس جس قدر مال ہے اس میں ایک درہم بھی مشتبہ نہیں ہے۔

(شہاب الدین احمد بن محمد القسطلانی۔ ارشاد الساری 1/37)

ابتدائی حالات:

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے والد کا انتقال امام بخاری کے ایام طفولیت میں ہی ہو گیا تھا آپ کی پرورش کی تمام تر زمہ داری آپ کی والدہ نے سن بھال لی۔ بچپن ہی میں امام بخاری کی بصارت بھی جاتی رہی متعدد ماہر معالجین کے علاج و تدبیر کے باوجود بینائی درست نہ ہو سکی۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے بارگاہِ خداوندی میں انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ دعا میں مانگیں۔ بالآخر دریائے رحمت جوش میں آیا۔ آپ کی دعاؤں کو شرفِ قبولیت عطا ہوا تو خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ العلیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری درد بھری دعاؤں کے سبب سے پروردگارِ عالم نے تمہارے لخت جگر کو بصارتِ لوتا دی ہے۔ صبح جب امام بخاری بیدار ہوئے

تو آنکھیں روشن و بینا تھیں۔ (شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ اخلاق المحدثات ۱/۹)

تحصیل علم حدیث:

امام بخاری نے نو یاد سال کی عمر میں طلب علم حدیث کا آغاز فرمایا۔ سولہ سال کی عمر میں آپ نے ابہ مبارک اور امام وکیع کی کتب حدیث کو حفظ کر لیا۔ پھر طلب علم حدیث کی خاطر سفر اختیار فرمایا۔ شام، مصر اور جزیرہ میں دو مرتبہ تشریف لے گئے۔ چار مرتبہ بصرہ اور چھٹے مرتبہ حجاز گئے۔ متعدد بار کوفہ اور بغداد بھی گئے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ہزار سے زائد آدمیوں کی حدیث لکھی اور اسی طرح بے شمار افراد نے امام بخاری کو علم حدیث حاصل کیا۔ نوے ہزار (90,000) افراد نے امام بخاری سے صحیح بخاری کو روایت کیا۔ حفظِ حدیث میں امام بخاری کا کوئی مساوی و مقابل نہ تھا۔ سند، متن، معرفت علی اور صحیح و سقیم کے درمیان تمیز کرنے میں امام بخاری اپنی مثال آپ تھے۔ امام مسلم نے امام بخاری کو ان الفاظ کے ساتھ خراج تحسین پیش کیا:

لَا يَغْضُبُكَ إِلَّا حَاسِدٌ وَأَشْهَدُ اللَّهَ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُكَ. یعنی آپ سے بغرض رکھنا حاسد کے علاوہ کسی کا کام نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اس وقت دنیا میں بے مثل ہیں۔ (علام احمد سعید کاظمی۔ مقالات کاظمی ۱/237)

قوت حافظہ:

امام بخاری حیرت انگیز حافظے کے حامل تھے حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ امام بخاری ہمارے ساتھ مشايخ بصرہ سے حدیث کا سماع کیا کرتے تھے۔ اور آپ کے علاوہ تمام شرکاء درسی احادیث کو معرض تحریر میں لاتے تھے۔ تقریباً پندرہ سو لے دن کا عرصہ گزر گیا تو ہم نے امام بخاری سے کہا کہ آپ نے اتنے دنوں کی محنت ضائع کر دی کیونکہ اس قدر

حدیثیں جو آپ نے نہیں لکھیں، وہ کیسے یاد رہ سکتی ہیں۔ امام بخاری نے فرمایا: تم اپنے تحریر کردہ مجموعے لے آؤ۔ جب ہم اپنے مجموعہ ہائے حدیث لے آئے تو امام بخاری نے بالترتیب احادیث سنانی شروع کر دیں اور پندرہ ہزار احادیث سے بھی ازیادہ بیان کر دالیں۔ یہ سن کر ہمیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا یہ احادیث خود امام بخاری نے ہمیں لکھوائی ہیں۔

حدی الساری میں منقول ہے کہ سلیمان بن مجاہد نے امام بخاری کو چین کے زمانہ میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا تو ہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے ستر ہزار احادیث یاد ہیں۔ امام بخاری نے فرمایا: مجھے اس سے بھی زیادہ حدیثیں یاد ہیں اور میں جن صحابہ سے احادیث روایت کرتا ہوں ان میں سے اکثر کی ولادت ووفات کی تاریخ اور ان کی جائے سکونت پر اطلاع رکھتا ہوں۔ نیز میں کسی حدیث کو روایت نہیں کرتا مگر کتاب و سنت سے اس کی اصل پرواہیت رکھتا ہوں۔ (امام احمد القسطلاني۔ ارشاد الساری 1/34)

محمد بن حاتم کہتے ہیں کہ ایک دن ہم امام فرمایابی کی خدمت میں حاضر تھے کہ انہوں نے ایک حدیث کی سند بیان کرتے ہوئے کہا:

”حدثنا سفیان عن ابی عروة عن ابی الخطاب عن ابی حمزة“
اس سند میں سوائے سفیان کے تمام راویوں کے ناموں کی بجائے کہنیں مذکور ہیں۔ فرمایابی نے ہم سب سے ان راویوں کے نام پوچھئے تو ہم میں سے کوئی بھی نہ بتا سکا۔ بالآخر سب کی نظریں امام بخاری کی طرف اٹھیں تو امام بخاری نے فرمایا: ابو عروہ کا نام عمر بن راشد اور ابو الخطاب کا نام قتادہ بن دعامة اور ابو حمزة کا نام انس بن مالک ہے۔

(ابن حجر عسقلانی۔ حدی الساری 2/251)

لوگوں نے بارہا امام بخاری کا امتحان لیا اور ہر بار امام بخاری نے اپنی خداداد وقت حافظہ اور مغز بیدار کی بدولت اپنی قابلیت اور فن حدیث میں مہارت کا لوہا منوایا۔ حافظ

ابوالازھر راوی ہیں کہ ایک مرتبہ سمرقند میں چار سو محدث جمع ہوئے اور انہوں نے امام بخاری کو مغالطہ دینے کیلئے شام کی اسناد عراق کی اسناد میں اور عراق کی اسناد شام کی اسناد میں داخل کر دیں اور لگا تاریخات دن تک امام بخاری کو مغالطہ دینے کیلئے اس قسم کی مغالطہ آمیز اسناد اور متن پیش کرتے رہے۔ لیکن کسی مرتبہ بھی امام بخاری کو نہ تو سند میں مغالطہ دے سکے اور نہ ہی متن میں مغالطہ دینے میں کامیاب ہوئے۔

(مولانا غلام رسول سعیدی۔ تذكرة الحمد شیخ ص 179۔ بحوالہ ارشاد الساری 1/34)

امام بخاری کے اساتذہ:

امام بخاری کے اساتذہ و مشايخ میں ان تمام حضرات کا تذکرہ کرنا تو اس مختصر مقالہ میں مشکل ہے۔ کیونکہ آپ کے اساتذہ کی تعداد ایک ہزار سے بھی زائد ہے۔ تاہم آپ کے مشايخ میں سے بعض عظیم الشان اور جلیل المرتبت محدثین کے اسماء گرامی ذکر کئے جاتے ہیں:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1- (بخارا میں) محمد بن سلام بیکنڈی | 2- عبد اللہ بن محمد مندی |
| 3- محمد بن عروۃ | 4- ہارون بن الشفیف |
| 5- (بغداد میں) مکی بن ابراہیم | 6- یحییٰ بن بشیر الزہبی |
| 7- (مرود میں) علی بن شفیق | 8- معاذ بن اسد |
| 9- عبدالان | 10- صدقہ بن فضل |
| 11- (نیشاپور میں) یحییٰ بن یحییٰ | 12- بشربن حاکم |
| 13- اسحاق | 14- (رمی میں) حافظ ابراہیم بن موسیٰ |
| 15- (بغداد میں) محمد بن عیسیٰ | 16- شریح بن نعمان |

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 18- (بصرہ میں) ابو عاصم النبیل | 17- معالی بن منصور |
| 20- محمد بن عبد اللہ الاصاری | 19- بدل بن مجر |
| 22- عمر بن عاصم | 21- عبدالرحمن بن محمد |
| 24- (کوفہ میں) عبید اللہ بن موسیٰ | 23- عبد اللہ بن رجاء |
| 26- طلق بن غنام | 25- ابو نعیم |
| 28- خلاد بن یحییٰ | 27- حسن بن عطیہ |
| 30- قبیصہ | 29- خالد بن مخلد |
| 32- حمیدی | 31- (مکہ میں) ابو عبدالرحمن مقری |
| 34- (مدینہ میں) عبدالعزیز اویسی | 33- احمد بن محمد ازرقی |
| 36- مطرف بن عبد اللہ | 35- ابو ثابت محمد بن عبد اللہ |
| 38- (واسطہ میں) سعیدا بن ابی مریم | 37- عمرو بن محمد بن عون |
| 40- سعیدا بن ملید | 39- عبداللہ بن صالح |
| 42- (دمشق میں) ابو مسیہ | 41- عمرو بن رجیع بن طارق |
| 44- (قیساریہ میں) محمد بن یوسف فربیابی | 43- ابو نصر فرادیسی |
| 46- (حمص میں) ابوالمغیرہ | 45- (عسقلان میں) آدم ابن ابی ایاس |
| 48- وہبی | 47- ابوالیمان |
| 50- احمد بن خالد | 49- علی بن عیاش |
| | 51- وحاظی |

فقہی مسلک:

امام بخاری کے فقہی مسلک کے بارے میں امام قسطلانی بحوالہ امام تاج الدین السکی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَقَدْ ذَكَرَهُ أَبُو عَاصِمٍ فِي طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ.

یعنی امام ابو عاصم نے امام بخاری کو طبقات شافعیہ میں ذکر فرمایا نیز امام موصوف یعنی تاج الدین سکی رحمہ اللہ علیہ طبقات الشافعیہ الکبریٰ میں فرماتے ہیں:

وَسَمِعَ بِمَكَّةَ عَنِ الْحَوَيْدِيِّ وَعَلَيْهِ تَفَقَّهٌ عَنِ الشَّافِعِيِّ.

یعنی امام بخاری نے مکہ مکرمہ میں حمیدی سے حدیث کامال کیا اور ان سے فقه

شافعی کا علم حاصل کیا۔ (امام تاج الدین السکی - طبقات الشافعیہ الکبریٰ 2/3)

مذکورہ بالاحوالہ جات کی روشنی میں اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ امام بخاری شافعی المذهب ہیں۔ امام بخاری امام شافعی کے مقلد ہونے کے ساتھ ساتھ مجتہد فی المسائل اور طبقات فقهاء میں درجہ ثالثہ پر ممکن تھے چنانچہ بعض مسائل میں امام شافعی علیہ الرحمہ سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ اسی لئے ہل علم فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی حیثیت شافعی میں ایسی ہی ہے جیسی امام ابو جعفر طحاوی کی احناف میں۔ (مولانا ناجام رسول سعیدی۔ تذکرة الحد ثین ص 187)

تلذمذہ:

و یہ تو تقریباً ایک لاکھ اشخاص نے امام بخاری سے حدیث کو روایت کیا لیکن با قاعدہ آپ سے استفادہ کرنے والے اور زانوئے تلمذ طکرنے والے حضرات میں سے بعض کے اسمائے گرامی مندرجہ ذیل ہیں:

2- ابو بکر بن ابی الدنیا

1- عمر بن محمد بحیری

- 3- ابو بکر براز - حسین بن محمد بتیانی - 4
- 5- یعقوب بن یوسف بن اخرم - 6- عبد اللہ بن محمد بن ناجحه
- 7- سہل بن شاز ویہ بخاری - 8- عبید اللہ بن واصل
- 9- قاسم بن زکریا مطرز - 10- ابو قریش محمد بن جمعہ
- 11- محمد بن سلیمان باغانندی - 12- ابراہیم بن موسیٰ جوہری
- 13- علی بن عباس - 14- ابو حامد عمشی
- 15- ابو کریم بن محمد بن صدقہ بغدادی - 16- اسحاق بن داؤد
- 17- حاشد بن اسماعیل بخاری - 18- محمد بن موسیٰ
- 19- محمد بن عبد اللہ بن جنید - 20- جعفر بن محمد نیشاپوری
- 21- ابو بکر بن داؤد - 22- ابو القاسم بغوي
- 23- ابو محمد بن صاعد - 24- محمد بن ہارون حضرمی
- 25- حسین بن عاملی بغدادی -

تصانیف:

امام بخاری علیہ الرحمہ نے طلب علم حدیث کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی خاطر خواہ خدمات سرانجام دیں اور متعدد قابل قدر تصانیف کا ذخیرہ چھوڑا ہے۔ بعض کے نام یہ ہیں:

- 1- الجامع الحجج - 2- التاریخ الکبیر
- 3- التاریخ الاوسط - 4- التاریخ الصغیر
- 5- کتاب الضعفاء - 6- کتاب الکنی

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 8- جزء رفع اليدين | 7- الادب المفرد |
| 10- كتاب الاشربة | 9- جزء القراءة خلف الامام |
| 12- كتاب العلل | 11- كتاب الحبه |
| 14- الجامع الكبير | 13- بر الوالدين |
| 16- المسند الكبير | 15- الشفير الكبير |
| 18- قضايا الصحابة والتبعين | 17- خلق افعال العباد |
| 20- كتاب المبسوط | 19- كتاب الوحدان |
| 22- اسمى الصحابة | 21- كتاب الفوائد |

(ابن حجر عسقلاني -حدی الساری 262)

صحیح بخاری کا تعارف

امام بخاری کی اس مشہور زمانہ کتاب کا مکمل نام یہ ہے ”الجامع الصحيح المسند المختصر من امور رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسننه وایامہ“۔
 بقول امام نووی شارح مسلم محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد اصح الکتب صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں۔ پھر جمہور علمائے حدیث کی نظر میں جس طرح امام بخاری بحسبت امام مسلم کے فائق ہیں اسی طرح صحیح بخاری کو بھی صحیح مسلم پر فوقیت حاصل ہے۔ لہذا صحیح بخاری بعد از قرآن اصح الکتب قرار پائی۔ صحیح بخاری کی صحیح مسلم پر ترجیح کی متعدد وجہوں ہیں جن میں سے چند ایک حصہ ذیل ہیں:

- 1- روایۃ بخاری بحسبت روایۃ مسلم کے زیادہ ثقہ ہیں۔
- 2- اسانید بخاری کا اتصال اسانید مسلم کے اتصال سے زیادہ قوی ہے۔

- 3- بخاری میں مسائل فقہیہ کا استنباط اور نکاتِ غریبہ بکثرت پائے جاتے ہیں۔
- 4- امام بخاری کے متکلم فیہ زواۃ کی تعداد مسلم کے متکلم فیہ زواۃ سے بہت کم ہے کیونکہ بخاری کے متکلم فیہ زواۃ صرف تیس ہیں جبکہ مسلم کے متکلم فیہ کی زواۃ کی تعداد ایک سو سانچھے ہے۔

5- بخاری جامع ہے اور مسلم جامع نبیں کیونکہ جامع محدثین کی اصطلاح میں حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں آٹھ مخصوص عنوانوں کے تحت احادیث درج کی جائیں:

- 1- سیر
- 2- تفسیر
- 3- آداب
- 4- عقائد
- 5- فتن
- 6- احکام
- 7- اشراط
- 8- مناقب

جبکہ صحیح مسلم میں کتاب الفسیر برائے نام ہے جس کو کا عدم تصور کیا جاتا ہے۔

6- صحیح بخاری میں ثلاثیات کی تعداد تیس (23) ہے جبکہ صحیح مسلم، ابو داؤد اور نسائی میں کوئی ثلاثی حدیث نہیں تاہم ترمذی میں ایک اور ان ملجمہ میں پانچ موجود ہیں۔

سبب تالیف صحیح بخاری:

- 1- شاہ عبدالعزیز محمد دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دن امام بخاری اسحاق بن راہویہ کی محفل میں بیٹھے تھے کہ اسحاق بن راہویہ کے احباب نے کہا: کیا ہی اچھا ہوتا کہ کوئی شخص بتوفیق الہی ایسی کتاب لکھتا جس میں صرف صحت میں اعلیٰ درجہ کی حامل احادیث جمع کی جاتیں تاکہ عمل کرنے والے بلا خوف و تردد اس پر عمل پیرا ہو سکتے۔
- امام بخاری کے دل میں یہ بات جاگزین ہو گئی اور آپ نے اسی وقت الجامع الصحیح کی

تالیف کا پختہ ارادہ کر لیا۔ چنانچہ آپ نے پچھے لاکھ احادیث کے ذخیرہ میں سے صحیح ترین احادیث کا انتخاب کرنا شروع فرمادیا۔ (شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ بستان الحمد شیعی)

2- امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدنِ اقدس سے پنکھے سے مکھیاں دور ہٹا رہے ہیں اس خواب کی تعبیر یہ کی گئی کہ آپ یعنی امام بخاری حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف منسوب کردہ جھوٹی باتوں کو دوز کریں گے۔ لہذا اس خواب کے بعد آپ نے احادیث صحیح مرفوع کو جمع کرنے کا عزم کر لیا۔ (ماعلی قاری۔ مرقة المفائق / ۱۳)

تعداد مرویات صحیح بخاری:

حافظ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ صحیح بخاری کی کل احادیث مندرجہ بیش مل مکرات سات ہزار تین سو سانوںے (۳۹۷) ہیں اور متعلقات ایک ہزار تین سو اکتالیس (۱۳۲۱) اور جملہ متابعات تین سو چوالیس (۳۲۳) ہیں۔ کل میزان نو ہزار بیاسی (۹۰۸۲) ہے اور حذف مکرات کے بعد مرفوع حدیثوں کی تعداد دو ہزار چھ سو تیس (۲۶۳) رہ جاتی ہے۔
(مولانا غلام رسول سعیدی۔ تذكرة الحدیثین ص 204)

شرائط:

امام بخاری اپنی صحیح میں اس حدیث کو وارد کرتے ہیں جس کے راوی امام بخاری کے شیخ سے لے کر صحابی تک ثقہ اور متصل ہوں۔ ثقہ ان راویوں کو کہا جاتا ہے جو مسلم، عادل، کامل الضبط والا تقان اور کثیر الملازمه مع الشیخ ہوں۔ نیز وہ اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت نہ کریں اور نہ ہی ان میں کوئی علت خفیہ قادحة ہو۔ اگرچہ امام بخاری قلیل الملازمه مع الشیخ راویوں کی حدیث بھی لے لیتے ہیں مگر بالاستیعاب نہیں بلکہ ایسی احادیث

میں سے انتخاب کرتے ہیں اور متصل کا مطلب یہ ہے کہ ہر راوی اپنے شیخ سے سمعت یا حدثنا کے صیغہ لائے جن سے اس راوی کی شیخ سے ساعت پر تصریح ہوتی ہے یا پھر راوی ایسا صیغہ لائے جس سے بظاہر ساعت پر دلالت ہوتی ہے۔ جیسے عن فلان عن فلان یا ان فلاں قد قال۔ اس دوسری شکل میں ضروری ہے کہ راوی کی مردی عنہ سے ملاقات ثابت ہو اور وہ راوی ملس نہ ہو۔ بعض محدثین نے امام بخاری کی طرف اس شرط کو منسوب کیا کہ اولاً حدیث کو دو صحابی روایت کریں یا پھر ہر صحابی سے دو شخص روایت کریں پھر ان میں سے ہر ایک سے دو دو شخص روایت کریں۔ لیکن یہ شرط اس لئے درست نہیں قرار پاتی کہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ”انما الاعمال بالنيات“ صرف حضرت عمر بن خطاب رض سے مردی ہے اور حضرت عمر سے صرف عالمہ نے اور عالمہ ابن وقار لیشی سے صرف محمد بن ابراہیم تھی نے اور ان سے صرف یحییٰ بن سعید النصاری نے روایت کی۔ (طاہر بن صلاح الجزائری۔ توجیہ النظر ص ۹)

صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا موازنہ:

علمائے حدیث اس پر متفق و مجمع ہیں کہ حدیث کی صحت کا مدار اتصال، اتقان رجال اور عدم شذوذ و عدم علل پر ہوتا ہے اور ان تمام امور میں صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر فوقيت حاصل ہے مثلاً

- اتصال کے اعتبار سے فوقيت اس طرح ثابت ہے کہ امام بخاری راوی اور مردی عنہ کی ملاقات کو شرط قرار دیتے ہیں جبکہ امام مسلم کے نزد یہ فقط معاصرت کافی ہے۔
- اتقان رجال کے اعتبار سے بھی صحیح بخاری کو متعدد وجوہ سے برتری حاصل ہے۔ جن میں سے چند یہ ہیں:

- امام بخاری قلیل الملازم مع اشیخ سے روایات کا صرف انتخاب کرتے ہیں اور

امام مسلم اس طبقہ کی تمام روایات کو بالاستیعاب قبول کرتے ہیں۔

ب۔ جن حضرات سے روایت کرنے میں امام بخاری منفرد ہیں ان کی تعداد چار سو تیس (۲۳۰) ہے جن میں سے اسی (۸۰) کو ضعیف قرار دیا گیا اور جن سے روایت کرنے میں امام مسلم منفرد ہیں ان کی تعداد تھی سویں (۲۰) ہے جن سے ایک سو سانچھ (۱۶۰) ضعیف ہیں۔

ج۔ امام بخاری کے جن راویوں پر جرح کی گئی ان میں سے اکثر امام بخاری کے بلا واسطہ استاذ ہیں جن کے حالات سے امام بخاری بخوبی آگاہ تھے اور ان کی روایات کو جانچ پر کھ سکتے تھے بخلاف امام مسلم کے مجروح راویوں کے کہ وہ ان کے بالواسطہ استاذ ہیں۔

- 3۔ عدم شذوذ و عدم علل کے لحاظ سے بھی صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر تفوق حاصل ہے کیونکہ صحیح بخاری کی جن احادیث میں علت خفیہ قادر حذف کالی گئی ان کی تعداد فقط اسی (۸۰) ہے بخلاف صحیح مسلم کے کہ اس میں ایسی روایات کی تعداد ایک سویں (۱۳۰) ہے۔ (مولانا غلام رسول سعیدی۔ تذكرة الحدیثین ص ۲۰۶)



تعارفِ امام مسلم

نام و نسب اور ولادت و وفات:

امام مسلم بن الحجاج القشیری نیشاپوری کی کنیت ابو الحسین اور لقب عساکر الدین ہے۔ ان کے دادا کا نام مسلم بن ورد بن کرشاد ہے۔ عرب کے مشہور قبیلہ بنو قشیر کی طرف منسوب تھے۔ آپ کی ولادت ۲۰۲ھ یا ۲۰۳ھ میں ہوئی اور وفات ۲۵ رب جمادی ۲۶۱ھ میں ہوئی۔ نیشاپور سے باہر نصر آباد میں آپ مدفون ہیں۔ حافظ ابو علی نیشاپوری نے امام مسلم کو بایں الفاظ خارج تحسین پیش کیا:

مَاتَ حَثَّ عَدِيْمِ السَّمَاءِ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ.
یعنی آسمان کے نیچے کتاب مسلم سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں۔

(علامہ احمد سعید کاظمی۔ مقالات کاظمی ۲۳۸)

حلیہ مبارکہ:

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ امام مسلم سرخ و سفید رنگ، بلند قد و قامت اور بارعب شخصیت کے حامل تھے۔ سر پر عمامہ باندھتے اور شملہ ووندوں کے درمیان رکھتے تھے۔ آپ نے اپنے علم کو ذریعہ معاش نہیں بنایا بلکہ کپڑے کی تجارت کر کے اپنی نجی ضروریات پوری کرتے تھے۔

تجھر علمی:

آپ کے متعدد اساتذہ و معاصرین نے آپ کے علمی تبحر و کمال اور حدیث میں

آپ کی مہارت کو بے حد تحسین کی نظر سے دیکھا اور آپ کی تعریف کی۔ اسحاق بن منصور جو امام مسلم کے استاذ ہیں، نے فرمایا کہ ہم اس وقت تک خیر سے محروم نہیں رہ سکتے جب تک مسلم بن حجاج ہم میں موجود ہیں۔ محمد بن عبدالوہاب فراد نے کہا کہ مسلم علم کا خزانہ ہے۔ میں نے ان میں سوائے خیر کے کچھ نہیں پایا۔ ابن اخزم نے کہا کہ نیشاپور نے تین محدث پیدا کیے:

2- ابراہیم بن ابی طالب

1- محمد بن یحییٰ

3- مسلم بن حجاج

ابو بکر جارودی نے کہا کہ مسلم بن حجاج علم کے محافظ تھے۔ مسلمہ بن قاسم نے کہا کہ وہ جلیل القدر امام تھے۔ بندار نے فرمایا کہ پوری دنیا میں صرف چار حفاظ حدیث ہوئے ہیں:

2- محمد بن اسماعیل

1- ابو زرعة

4- مسلم بن حجاج

3- دارمی

(ابن حجر عسقلانی۔ تہذیب التہذیب 10/128)

علمی مقام:

شاغ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے علمی تفوق کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حدیث کی صحت و سقم کی پہچان میں امام مسلم اپنے تمام معاصرین میں ممتاز تھے۔ بلکہ بعض امور میں امام بخاری پر بھی فوقيت وفضیلت رکھتے تھے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ امام بخاری کی اکثر روایات اہلی شام سے بطریق متناولہ ہیں نہ کہ بالشافعیان سے سنی ہوئیں۔ تو بعض دفعہ جب ایک ہی راوی کو بھی نام اور کبھی کنیت سے ذکر کیا جاتا ہے تو امام بخاری ان کو دور اوی تصور فرمائیتے ہیں حالانکہ وہ ایک ہی راوی کے دوناً نام ہوتے ہیں بخلاف امام مسلم کے کہ وہ اس مغالط کے مرتكب نہیں ہوتے۔ نیز امام بخاری کے تصرفات

مثلاً تقدیم و تاخیر اور حذف و اختصار کی وجہ سے بعض اوقات الحسن پیدا ہو جاتی۔ اگرچہ خود بخاری ہی کے دوسرے طرق کو دیکھ کرو تھی اور اشتباه دور بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن امام مسلم نے یہ طریقہ ہی اختیار نہیں کیا۔ بلکہ متون حدیث کو موتیوں کی لڑی کی طرح اس انداز سے بالترتیب روایت فرمایا ہے کہ بجائے تعمید کے اس کے معانی میں مزید چمک پیدا ہو جاتی ہے۔
 (شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ بستان الحمد شیخ ص ۲۸۰)

حافظ عبدالرحمن بن علی الربيع یعنی شافعی نے امام مسلم کے ترتیب ابواب کے حسن کو ایک شعر میں مقابل کی صورت میں بیان فرمایا:

تَنَازَعَ قَوْمٌ فِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٌ
 لَكَذِّي وَقَالُوا أَيُّ دِينٍ يَقْدَمُ
 فَقُلْتُ لَقَدْ فَاقَ الْبُخَارِيُّ صِحَّةً
 كَمَا فَاقَ فِي حُسْنِ الصَّنَاعَةِ مُسْلِمٌ

ترجمہ: میرے پاس ایک قوم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں جھگڑا کیا کہ ان میں سے کس کے اسلوب کو ترجیح دی جائے۔ تو میں نے کہا کہ مرتبہ صحیت میں صحیح بخاری اور حسن ترتیب و تدوین میں صحیح مسلم کو فوقیت حاصل ہے۔

وفات:

امام مسلم کی وفات کا سبب نہایت ہی عجیب و غریب ہے۔ ایک دفعہ آپ ایک مجلس میں تشریف فرماتے تھے کہ آپ سے ایک حدیث کے بارے میں استفسار کیا گیا۔ اس وقت وہ آپ کو مسخر نہ تھی۔ چنانچہ آپ اپنے گھر تشریف لائے اور اپنے ذخیرہ حدیث میں اس حدیث مستفسرہ کو تلاش کرنے لگے۔ پاس ہی ایک بھجوروں کاٹو کرہ بھی رکھا تھا آپ

حدیث کی تلاش میں منہمک و مستغرق تھے اور بے دھیانی میں کھجوریں بھی لکھاتے چلے جاتے تھے۔ اس انہاک واستغراق میں حدیث کے ملنے تک وہ تمام کھجوریں آپ تناول فرمائے اور یہی بات آپ کے وصال کا سبب بن گئی۔ (شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ بستان الحمد شیع)

تصانیف:

- | | | |
|--------|------------------------|----------------------------|
| - 2 - | المسند الکبیر | صحیح الجامع |
| - 4 - | كتاب العلل | مندا الصحابة |
| - 6 - | كتاب الجامع على الباب | كتاب الأسماء ولكنی |
| - 8 - | كتاب الأفراد | كتاب الوحدان |
| - 10 - | كتاب حديث عمرو بن شعیب | كتاب سوالات احمد بن حنبل |
| - 12 - | كتاب مشائخ مالک | كتاب الانقىاع باهـ السبع |
| - 14 - | كتاب مشائخ شعبـ | كتاب مشائخ ثوری |
| - 16 - | كتاب الخضر میں | كتاب من ليس له الاراؤ واحد |
| - 18 - | كتاب اولاد الصحابة | مندام امام بالک |
| - 20 - | كتاب الطبقات | كتاب اوهام الحمد شیع |

اساتذہ امام مسلم:

- | | | |
|-------|--------------------|-------------------|
| - 2 - | محمد بن يحيیٰ ذہلی | يحيیٰ بن يحيیٰ |
| - 4 - | اسحاق بن راهویہ | احمد بن حنبل |
| - 6 - | احمد بن یونس یربوی | عبداللہ بن مسلم |
| - 8 - | سعید بن منصور | اسعیل بن ابی اویس |

- 10- داود بن عمر وال Choi
- 11- پیغمبر بن خارج
- 12- شیان ابن فروخ
- 9- عون بن سلام
- 13- محمد بن اسماعیل بخاری

(امام عبد اللہ الشافعی الدین ذہبی۔ تذکرۃ الحفاظ 2/558)

تلامذہ امام مسلم:

- 1- ابوالفضل احمد بن سلمہ
- 2- ابراہیم بن ابی طالب
- 3- ابو عمر و خناف
- 4- حسین بن محمد قبانی
- 5- ابو عمر و مستملی
- 6- حافظ صالح بن محمد
- 7- علی بن حسن
- 8- محمد بن عبد الوہاب
- 9- علی بن حسین بن جنید
- 10- ابی خزیمہ
- 11- ابن صاعد
- 12- سراج
- 13- محمد بن عبد بن حمید
- 14- ابو حامد ابن الشرقاوی
- 15- عبد اللہ بن الشرقاوی
- 16- علی بن اسماعیل الصغار
- 17- ابو محمد بن ابی حاتم رازی
- 18- ابو حامد عمشی
- 19- ابراہیم بن محمد بن سفیان
- 20- محمد بن مخلد دوری
- 21- ابراہیم بن محمد بن حمزہ
- 22- ابو عوانہ اسفرائیلی
- 23- محمد بن اسحاق فاہی
- 24- ابو حامد بن حسویہ
- 25- ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی

(ابن حجر عسقلانی۔ تہذیب التہذیب 10/126)

امام ترمذی نے اپنی جامع صحیح میں امام مسلم سے صرف ایک روایت ذکر کی ہے جو

کہ حبِ ذیل ہے:

حدثنا مسلم بن حجاج نا یحییٰ بن یحییٰ نا ابو معاویہ عن محمد بن عمرو عن ابی سلمة عن ابی هریرۃ (رضی اللہ عنہ) احصوا هلال شعبان لرمضان (اما رمزی - جامع رمزی - ابواب الصوم - باب ما جاء فی احصاء هلال شعبان لرمضان 148)

ترجمہ: ہمیں حدیث بیان کی مسلم بن حجاج نے، انہوں نے کہا: ہمیں حدیث بیان کی تھی کہ بن یحییٰ نے، انہوں نے کہا: ہمیں حدیث بیان کی ابو معاویہ نے، انہوں نے محمد بن عمرو سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہؓ سے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: رمضان کیلئے شعبان کے چاند کا حساب رکھا کرو۔

تعارف صحیح مسلم

اس کتاب کا نام الجامع الصحیح ہے، محدثین کے نزدیک صحیح بخاری کے بعد اس کا مرتبہ ہے۔ امام مسلم علیہ الرحمہ نے بعض تلامذہ کی درخواست پر تین لاکھ احادیث میں سے انتخاب کر کے اس کتاب کی صورت میں احادیث صحیحہ کا ایک عظیم الشان مجموعہ تیار فرمایا۔ اس کتاب کی مذوین میں پندرہ سال کا طویل عرصہ صرف ہوا اور اس میں صرف انہی احادیث کو لایا گیا ہے جن کی صحت پر اس وقت کے اکابر متفق تھے، تکمیل کتاب کے بعد امام مسلم نے اس کو علی حدیث اور جرح و تعدیل کے امام حافظ ابو زرعة کی خدمت میں پیش کیا۔ جس روایت کے بارے میں انہوں نے کسی علمت کی نشاندہی کی، اس کو آپ نے اپنی

کتاب سے خارج کر دیا۔ (امام ذہبی - تذکرة الحفاظ 2/590)

چونکہ صحیح مسلم کی تالیف سے امام مسلم کی غرض احادیث صحیحہ مرفوعہ کو بکثرت جمع کرنا اور ان کی اسناد پر کثیرہ بطریقہ متعددہ کو وارد کرنا تھا تاکہ صحت و قوت احادیث کی تائید

مزید ہوا اور ان احادیث کے جھٹ ہونے کو زیادہ سے زیادہ تقویت پہنچ، استنباط مسائل امام مسلم کا مقصد نہیں۔ اسی لیے صحیح مسلم میں تکرار نہیں پایا جاتا۔ بخلاف صحیح بخاری کے کہ ان کا مقصد استنباط مسائل ہے اور وہ متن حديث کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ایک حدیث سے متعدد مسائل مستبط کرتے ہیں تو اس کے متن کا بھی اعادہ فرماتے ہیں اور اس استنباط مسائل کے پیش نظر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی تبویب کی ہے اور تراجم ابواب قائم کئے ہیں اور امام مسلم کی غرض چونکہ استنباط مسائل نہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنی کتاب میں ابواب نہیں رکھے۔ صحیح مسلم کے نسخوں میں حواشی پر جو ابواب اور ان کے عنوانات پائے جاتے ہیں، وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نہیں بلکہ بعض شرح صحیح مسلم نے قائم کیے ہیں۔ صحیح مسلم کی خصوصیات میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ اس کی ترتیب صحیح بخاری کی ترتیب سے احسن ہے۔ اس میں ہر حدیث ایسی جگہ وارد کی گئی ہے جو اس کے لائق ہے اور اسی جگہ اس حدیث کے ان سب طرق و اسانید کو بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کر دیا ہے جو ان کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ جن طرق میں الفاظ کا اختلاف تھا، وہاں الفاظ مختلف کو بیان کر دیا ہے اور ساتھ ہی زیادہ ثقافت کو بھی ذکر فرمادیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے اس طریق کا رسے صحیح مسلم میں حدیث تلاش کرنا بہت آسان ہو گیا ہے نیز حدیثوں کے طرق متعدد اور مختلف الفاظ و زیادہ ثقافت جاننے سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں جن کی تفصیل اس مختصر مضمون میں نہیں آسکتی۔

رباعیات صحیح مسلم:

صحیح مسلم ثلاثیات سے خالی ہے۔ البتہ اسی (80) سے زائد اس میں ایسی حدیثیں ہیں جن کی سند میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین صرف چار واسطے ہیں یہ احادیث رباعیات کہلاتی ہیں۔

شرائط:

علامہ طاہر بن صلاح الجزایری صحیح مسلم میں ایسا حدیث کی شرائط پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام مسلم اپنی صحیح میں اس حدیث کو وارد کرتے ہیں جس کے تمام راوی مسلم، عادل، ثقہ، متصل، غیر شاذ اور غیر معلل ہوں۔ ثقہ کا معیار امام مسلم کے نزدیک یہ ہے کہ وہ راوی طبقہ اولیٰ یا طبقہ ثانیہ سے ہو طبقہ اولیٰ کا مطلب یہ ہے کہ راوی کامل الفبط والاتقان اور کثیر الملازمه مع الشخ ہو اور طبقہ ثانیہ کا مطلب یہ ہے کہ راوی کامل الفبط والاتقان اور قلیل الملازمه مع الشخ ہو۔ جو راوی طبقہ ثالثہ سے ہوں، امام مسلم ان کی روایات سے انتخاب کرتے ہیں، استیغاب نہیں کرتے۔ طبقہ ثالثہ کا مطلب یہ ہے کہ راوی ناقص الفبط اور کثیر الملازمه مع الشخ ہو اور اتصال کا معیار امام مسلم کے نزدیک یہ ہے کہ راوی اور مزوی عنہ کے درمیان معاصرت ثابت ہو۔ (طاہر بن صلاح الجزایری۔ توجیہ انظر ص ۸۶)

خود امام مسلم نے رواۃ حدیث کو تین طبقات میں منقسم فرمایا:

۱۔ وہ رواۃ جو ضبط اور اتقان میں اعلیٰ درجہ پر فائز ہوں۔

۲۔ وہ رواۃ جو ضبط اور اتقان میں متوسط درجہ کے حامل ہوں۔

۳۔ وہ رواۃ جو متروکین ہوں یعنی مبتهم بالکذب ہوں۔

صحیح مسلم میں ایسا حدیث کیلئے امام مسلم نے شرط یہ لگائی کہ اس کے راوی مذکورہ بالاطبقات میں سے پہلے و مطبوقوں سے ہوں۔ طبقہ ثالثہ کے بارے میں صراحتاً یہ فرمادیا کہ وہ ان کی احادیث کی تحریج نہیں کریں گے۔ (امام مسلم بن جاجان۔ مقدمہ صحیح مسلم ص ۵۶۳)

امام مسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وآلی حدیث ”فاما قرأ فاصتصوا“ کو آپ نے اپنی صحیح میں مندرج کیوں نہیں فرمایا حالانکہ یہ حدیث

آپ کے معیار پر صحیح ہے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ میں ہر اس حدیث کو اپنی صحیح میں درج نہیں کرتا جو فقط میرے زندگی کی صحیح ہو۔ بلکہ میں اس حدیث کو درج کرتا ہوں جس کے صحیح ہونے پر اتفاق ہو چکا ہو۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ امام مسلم کے زندگی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ اس حدیث کو اپنی صحیح میں وارد فرماتے ہیں جس کی صحت پر اجماع و اتفاق منعقد ہو چکا ہو۔ محمد شین نے امام مسلم کی اس شرط پر اعتراض کیا کہ صحیح مسلم میں متعدد ایسی احادیث مذکور ہیں جن کی صحت پر اجماع نہیں تو پھر امام مسلم یہ شرط کس بنیاد پر لگا سکتے ہیں۔ اس اعتراض کے کئی ایک جواب دیئے گئے جن میں سے ایک جواب جو شارح صحیح مسلم امام نووی نے دیا ہے یہ ہے کہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں جن احادیث کو وارد کیا وہ ان کے خیال میں متفق علیہ ہیں خواہ وہ فی الواقع بھی متفق علیہ ہوں یا نہ ہوں۔ دوسرا جواب امام سیوطی علیہ الرحمہ نے دیا کہ اس اجماع سے مراد اجماع اضافی ہے نہ کہ اجماع کلی۔ کیونکہ امام مسلم اپنی اس شرط میں اجماع سے مراد صرف امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، عثمان بن ابی شیبہ اور سعید بن منصور کا اتفاق و اجماع لیتے ہیں۔ (مولانا غلام رسولی سعیدی۔ تذكرة الحدیثین ص ۲۳۳)



تعارفِ امام ترمذی

نام و نسب اور ولادت و وفات:

امام ابو عیسیٰ محمد بن موسیٰ بن خحک الحنفی الرمزی ۲۰۹ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ مشہور حافظ رہے اور جامع، کتاب العلل الکبیر اور شماکل کے مصنف ہیں بے پناہ حافظہ کے مالک، یگانہ روزگار محدث اور امام بخاری کے شاگرد تھے بلکہ امام بخاری کو آپ جیسے نام دار اور عظیم شاگرد پہ بڑا ناز تھا۔ ایک موقع پر امام بخاری نے امام ترمذی کو فرمایا کہ تم نے مجھ سے اتنا استفادہ نہیں کیا جتنا استفادہ میں نے تم سے کیا ہے۔ تقریباً ستر سال کی عمر پا کر امام ترمذی نے ۱۳ رب المجب ۲۷۹ھ کو ترمذ کے مقام پر انتقال فرمایا اور وہیں پر مدفون ہوئے۔ (ابن حجر عسقلانی۔ تہذیب التہذیب 9/389)

تصانیف:

باوجودیکہ امام ترمذی نے طلب حدیث میں دور دراز ملکوں کا سفر کیا اور درس و تدریسِ حدیث میں آپ ہم وقت مشغول و مصروف رہتے اس کے باوجود آپ نے کچھ بلند پایہ کتب بھی تصانیف فرمائی ہیں جن کے نام یہ ہیں:

- 1- جامع ترمذی
- 2- کتاب العلل
- 3- کتاب التاریخ
- 4- کتاب الزہد
- 5- کتاب الشماکل النبویہ
- 6- کتاب الاساء و الکنی

اساتذہ:

امام ترمذی نے علم حدیث حاصل کرنے کیلئے دور دراز کے ملکوں کا سفر کیا اور بے شمار مشاہیر حدیث سے حدیث سنی ہے آپ کے اساتذہ و مشائخ خراسان، عراق، ججاز اور دیگر مراکز علم میں موجود ہیں جن میں سے بعض کے اسماء یہ ہیں:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1- ابو مصعب | 2- قتیبه بن سعید |
| 3- ابراہیم بن عبد اللہ ہروی | 4- اسماعیل بن موسیٰ اسدی |
| 5- سوید بن نصر | 6- علی بن حجر |
| 7- محمد بن عبد الملک بن ابی شوارب | 8- عبد اللہ بن معاویہ |
| 9- محمد بن اسماعیل بخاری | 10- مسلم بن حجاج |
| 11- ابو داؤد | |

(امام ذہبی۔ تذکرۃ الحفاظ 2/634)

تلامذہ:

جس طرح امام ترمذی کے اساتذہ و مشائخ مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں اسی طرح آپ کے تلامذہ بھی دور دراز سے سفر کی جمعویتیں اٹھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں طلبِ حدیث کی خاطر آتے رہے جن کی تعداد خاصی بڑی ہے۔ ان میں سے بعض کے اسماء حسب ذیل ہیں:

- | | |
|--|------------------------------|
| 1- ابو حامد احمد بن عبد اللہ بن داؤد مروزی | 2- احمد بن یوسف نفی |
| 3- ابو الحارث اسد بن حمدویہ | 4- داؤد بن نصر بن سہیل بزدوی |
| 5- محمد بن محبوب ابوالعباس محبوبی مروزی | 6- یاثم بن کلیب شامی |
| 7- عبد بن محمد بن محمود نفی | 8- محمد بن نمیر |
| 9- محمد بن محمود | 10- محمد بن کلی بن فوج |

12- ابو جعفر محمد بن سفیان بن نصر نشی

11- محمد بن منذر رابن سعید ہروی

13- محمد بن اسماعیل بخاری

امام ترمذی نے اپنی الجامع صحیح میں دو روایتیں ایسی ذکر کی ہیں جن کا امام بخاری نے امام ترمذی سے سماع کیا ہے اور وہ حدیثیں جامع ترمذی کے صفحے ۳۷۷ اور ۵۳۵ پر مندرجہ ہیں۔ اسی وجہ سے امام بخاری کو امام ترمذی کے تلامذہ کی فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے حالانکہ امام بخاری امام ترمذی کے اساتذہ و مشايخ میں شامل ہیں۔ (ابن حجر عسقلانی۔ تہذیب العہد یہ 387/9)

تعارف جامع ترمذی

جامع ترمذی کے بارے میں ایک شاعر نے ان خیالات کا اظہار فرمایا:

كِتَابُ التِّرْمِذِيِّ رِيَاضُ عِلْمٍ هَكُثُّ أَزْهَارُهُ زَهْرَ النُّجُومِ
بِهِ الْأَثَارَ وَاضْحَى أُبِيَّنَتْ كَالرَّسُومِ
وَأَعْلَاهَا الصِّحَّاحُ وَقَدْ آنَارَتْ نُجُومًا لِلْخُصُوصِ وَلِلْعُومُونِ

ترجمہ: امام ترمذی کی کتاب مثل باغات علم کے ہے جس کے پھول چک دک میں ستاروں کی مانند ہیں۔ اس میں آثار واضحہ کو ایسے الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو نشانات کی طرح قائم ہیں ان کی بلند ترین تصانیف میں سے یہ صحیح ہے جس نے ہر خاص و عام کیلئے علم و معرفت کے ستاروں کو روشن کر دیا۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مجموعی حدیثی فوائد کے اعتبار سے امام

ترمذی کی جامع کو تمام کتب حدیث پر چاروں جوہ سے فویت حاصل ہے:

اول: اس وجہ سے کہ اس کی ترتیب عمدہ ہے اور تکرار نہیں ہے۔

دوم: اس میں فقہا کا نامہ ہے اور ہر ایک کا استدلال بیان کیا گیا ہے۔

سوم: اس میں حدیث کی انواع و اقسام مثلاً صحیح، حسن، ضعیف، غریب اور معلل پہ عل کو

بیان کیا گیا ہے۔

چھادم: اس میں راویوں کے اسماء اور کنیتتوں اور ان کے القاب کے علاوہ ایسے فوائد کو بھی بیان کیا گیا ہے جن کا تعلق علم الرجال سے ہے۔

خود امام ترمذی کا فرمان ہے کہ جب میں اس جامع کی تالیف سے فارغ ہوا تو میں نے پہلے یہ نئے علماء حجاز، علماء عراق اور علماء خراسان کو دکھایا۔ جب ان سب علماء نے اس کی توثیق و تحسین کی تو توب میں نے اس کی ترویج و تشهیر کی کوشش کی۔

(شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ بستان الحدیثین ص ۲۹۲)

جامع ترمذی کا مقام:

اگرچہ بعض علماء کے نزدیک جامع ترمذی کا مرتبہ صحابہ ستہ میں چوتھا ہے لیکن اظہر واضح قول صاحب کشف الظنون کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

”الجامع الصحيح للام الحافظ ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی وهو ثالث الكتب الستة في الحديث.“

یعنی صحیحین (بخاری و مسلم) کے بعد تیسرا درجہ کتب صحابہ ستہ میں امام ترمذی کی

جامع کا ہے۔

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ”قوت المعتذی“ میں قاضی ابو بکر بن العربي کا ایک قول جامع ترمذی کے بارے میں نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: امام ابو عیسیٰ کی کتاب کی طرح کسی کتاب میں حلاوت و نفاست نہیں پائی جاتی۔ اس کتاب میں چودہ علوم ہیں اور ہر علم اپنے باب میں اصل کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی کئی شاخیں ہیں، ان چودہ علوم کے نام یہ ہیں۔

1۔ اصناف فوائد پر کتاب کی تالیف و ترتیب کے ساتھ بیان سندر

- 2- تصحیح حدیث
- 3- سق默 روایت کا بیان
- 4- تعدد طرق کا ایراد
- 5- جرح رواة
- 6- تعدیل رواة
- 7- روایوں کے نام
- 8- روایوں کی کنیت
- 9- بیان وصل
- 10- بیان قطع
- 11- معمول بہ کاظہار
- 12- متروک کا ایضاح
- 13- رد و بقول آثار کے بارے میں اختلاف علماء
- 14- تاویل حدیث میں اختلاف اقوال

(علام احمد سعید کاظمی۔ مقالات کاظمی 1/315)

شرائط:

رواۃ حدیث کے پانچ طبقے ہیں:

- 1- کامل الضبط والا تقادن وکثیر الملازمه مع الشیخ
- 2- کامل الضبط والا تقادن وقليل الملازمه مع الشیخ
- 3- ناقص الضبط والا تقادن وکثیر الملازمه مع الشیخ
- 4- ناقص الضبط والا تقادن وقليل الملازمه مع الشیخ
- 5- ناقص الضبط والا تقادن وقليل الملازمه مع الشیخ مع غواہ الجرح

امام ترمذی علیہ الرحمۃ نے اپنی الجامع صحیح میں پہلے چار طبقوں سے استیعاب فرمایا ہے جبکہ طبقہ خامسہ کے روایہ جو کہ ضعفاء کہلاتے ہیں، کی روایات سے انتخاب فرمایا ہے۔

امام ترمذی نے جامع صحیح میں جن احادیث کو وارد فرمایا ہے ان کی چار قسمیں ہیں

جو کہ مندرجہ ذیل ہیں:

- 1 وہ احادیث جو امام مسلم کی شرائط پر صحیح ہوں۔
- 2 وہ احادیث جو امام نسائی اور امام ابو داؤد کی شرائط کے مطابق صحیح ہوں۔
- 3 وہ احادیث جن کا اخراج نسائی اور ابو داؤد نے کی اور علت ظاہر کر دی۔
- 4 وہ احادیث جن کا اخراج خود امام ترمذی نے کیا اور ان کی علت بیان کر دی۔ (حافظ شمس الدین ذہبی۔ تذکرة الحفاظ 2/634)

جامع ترمذی میں ایک حدیث ثلاثی ہے یعنی اس میں امام ترمذی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف تین واسطے ہیں۔ حدیث کی سند اور متن و ترجمہ یہ ہے:

”حدثنا اسماعیل بن موسیٰ الفزاری ابن ابنة السدی الكوفی نا
عمر بن شاکر عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم یاتی علی النّاس زمان الصابر فیهم علی دینه
کالقابض علی الجمر“

(امام ترمذی۔ جامع ترمذی: ابواب الفتن 2/52)

ترجمہ: ہمیں حدیث بیان کی سدی کے نواسے اسماعیل بن موسیٰ فزاری کو فی نے، انہوں نے کہا: ہمیں حدیث بیان کی عمر بن شاکر نے، انہوں نے حضرت انس بن مالک سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، جس میں دین پر صبر کرنے والا ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنے والے کی طرح ہو گا۔



تعارفِ امام ابو داؤد

نام و نسب اور ولادت:

الامام الحافظ ابو داؤد سلیمان بن الاشعث بن شداد بن عمرو بن عامر بجتانی ۲۰۲ھ
میں بجتان کے ایک معزز خاندان ازو کے میں رونق افزائے دار دنیا ہوئے۔

تحصیل علم:

ابتدائی تعلیم کے بعد حصول علم و حدیث کی طرف راغب ہوئے اور اپنے دور کے
مقندر، جید اور ماہر علماء و محدثین سے احادیث کا سماع کیا اور طلبِ حدیث کے سلسلے میں مصر،
شام، حجاز، عراق اور خراسان سمیت متعدد اسلامی شہروں اور مراکز علمیہ کا سفر کیا۔ کئی بار اس
سلسلہ میں بغداد گئے اور بقول خطیب بغدادی بغداد ہی میں آپ نے اپنی کتاب اسنن
تصنیف فرمائی۔

وفات:

آپ کا وصال مبارک 16 شوال 275ھ بروز جمعۃ المبارک کو ہوا۔

اساتذہ و شیوخ:

آپ کے اساتذہ میں کثیر تعداد اعلام و اکابر محدثین شامل ہیں جن سے آپ نے
روایتِ حدیث کی ہے۔ ان میں سے بعض کے اسماءً گرامی مندرجہ ذیل ہیں:
1- ابوالولید طیاضی

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 3- محمد بن کثیر العبدی | -4 مسلم بن ابراہیم |
| 5- ابو عمر حوضی | -6 ابو توبہ حلبی |
| 7- ابو جعفر نقیلی | -8 سعید بن سلیمان و اسٹھی |
| 9- سلیمان بن عبد الرحمن مشقی | -10 صفوان بن جناح و مشقی |
| 11- احمد | -12 علی |
| 13- میکی | -14 اسحاق |
| 15- قطرن بن نصیر | -16 ابو عمرو ضریر |
| 17- عبد اللہ بن رجاء | -18 احمد بن یوسف |
| 19- سلیمان بن حرب | -20 قعبینی |

(امام شمس الدین ذہبی۔ تذکرة الحفاظ 2/591)

تلامذہ:

امام ابو داؤد کے متعدد تلامذہ ہیں۔ بعض کے نام یہ ہیں:

- | | |
|--|--|
| 1- ابو علی محمد بن احمد بن عمر واللووی | 2- احمد بن ابراہیم بن عبد الرحمن اشناوی |
| 3- ابو طیب | 4- ابو عمرو احمد بن علی بن الحسن البصری |
| 5- ابو سعید احمد بن محمد بن زیاد اعرابی | 6- ابو بکر محمد بن عبد الرزاق بن داستہ |
| 7- ابو الحسن علی بن الحسن بن العبدالانصاری | 8- ابو عیسیٰ اسحاق بن موسیٰ بن سعید رملی و راق |
| 9- ابو ساسماہ محمد بن عبد الملک بن یزید رواس | 10- ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن یعقوب البصری |
| 11- ابو بکر احمد بن سلیمان النجاشی | 12- حافظ ابو عبید محمد بن علی بن عثمان آجری |
| 13- اسماعیل بن محمد صغیر | 14- ابو عبد الرحمن نسائی |

- 15- ابو عیسیٰ ترمذی
- 16- حرب بن اسما عیل کرمانی
- 17- ذکر یا ساجی
- 18- ابو بکر احمد بن محمد بن ہارون الغلال خنبلی
- 19- عبد اللہ بن احمد بن موسیٰ عبدالان الاصویزی
- 20- ابو بشر محمد بن احمد الدوالبی
- 21- ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق اسفرائی
- 22- ابو بکر بن ابو داؤد
- 23- ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی الدینیا
- 24- ابراہیم بن حمید بن ابراہیم بن یوسف عاقولی
- 25- ابو حامد احمد بن جعفر اصبهانی
- 26- احمد بن مععلی بن یزید دمشقی
- 27- احمد بن محمد بن یاسین هڑوی
- 28- حسن بن صاحب الشاشی
- 29- حسین بن اوریس الانصاری
- 30- عبد اللہ بن محمد بن عبد الکریم رازی
- 31- علی بن عبد الصمد
- 32- محمد بن محمد بن دوری
- 33- ابو بکر محمد بن یحییٰ صوی

(حافظ ابن حجر عسقلانی۔ تہذیب التہذیب 4/171)

تصانیف:

- | | |
|-----|------------------------|
| -1 | كتاب السنن |
| -2 | كتاب المراسيل |
| -3 | كتاب المسائل |
| -4 | كتاب الرؤى على القدرية |
| -5 | كتاب الناخ والمنسوخ |
| -6 | كتاب التفرد |
| -7 | كتاب فضائل الانصار |
| -8 | منشد ماك بن انس |
| -9 | كتاب الزهد |
| -10 | دلائل النبوة |
| -11 | كتاب الدعاء |
| -12 | كتاب بدء الوجی |
| -13 | اخبار الخوارج |
| -14 | كتاب شریعتة الشفیر |

- | | |
|--|----------------------|
| 16- کتاب التفسیر | 15- فضائل الاعمال |
| 18- کتاب فضائل القرآن | 17- کتاب نظم القرآن |
| 20- کتاب شریعت المغاری (ابن حجر عسقلانی۔ تہذیب التہذیب 4/173) | 19- کتاببعث و النشور |

تعارف سنن ابو داؤد

پشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں:

”ابوداؤد در وقت تصنیف ایں سنن پنج لکھ حدیث حاضر داشت از جملہ آنہمہ انتخاب نموده است کہ این سنن دامرتب ساختہ کہ چهار ہزار و هشت صد احادیث مستند“۔ (شیخ عبدالحق دہلوی۔ بستان الحمد شیخ)

”اس کتاب کو تصنیف فرماتے وقت امام ابو داؤد کو پانچ لاکھ حدیثیں مستحضر تھیں جن سے انتخاب کر کے اس کتاب کو مرتب فرمایا۔ اب یہ کتاب چار ہزار آٹھ سو (4800) احادیث پر مشتمل ہے۔“

جب یہ کتاب مکمل ہو گئی تو امام ابو داؤد اس کو امام احمد بن حنبل کے پاس لے گئے، آپ نے اس کو بہت پسند فرمایا۔

شرائط:

امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں حدیث کو درج کرنے کی یہ شرط مقرر فرمائی کہ وہ احادیث متصل السنداً اور صحیح ہوں اور وہ ایسے راویوں سے مروی ہوں جن کو ترک کرنے پر اجماع نہ ہوا ہو۔ خطابی نے فرمایا کہ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں صحیح اور حسن دونوں قسم کی حدیثوں کو جمع فرمائے اور اس کتاب میں احادیث سقیمہ میں سے مقلوب و مجہول روایات

بالکل نہیں ہیں۔

شیخ ابو بکر حازمی نے فرمایا کہ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں راویوں کے پہلے تین طقوں یعنی کامل الضبط والاتقان و کثیر الملازمه مع الشیخ، کامل الضبط والاتقان و قلیل الملازمه مع الشیخ اور ناقص الضبط والاتقان و کثیر الملازمه مع الشیخ سے استیعاب فرمایا ہے۔ جبکہ چوتھے طبقہ کے زواہ یعنی ناقص الضبط والاتقان و قلیل الملازمه مع الشیخ سے انتخاب کیا ہے۔
 (مولانا غلام رسول عیدی۔ تذكرة الحمد شیخ ص ۲۸۳)



تعارف امام نسائی

نام و نسب اور ولادت:

امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بحر بن سنان بن دینار نسائی ۲۱۵ھ میں خراسان کے شہر میں پیدا ہوئے اور اسی شہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو نسائی کہا جاتا ہے۔

تحصیل علم حدیث:

پندرہ سال کی عمر میں علم حدیث کی تحصیل شروع فرمائی اور اس مقصدِ عظیم کی خاطر آپ نے حجاز، عراق، خراسان اور شام وغیرہ دور راز مرکز علمیہ کا سفر اختیار فرمایا بعد میں آپ خراسان سے مصر کی طرف نقل مکانی کر گئے اور وہیں پر مستقل سکونت اختیار کر لی۔

قابلیت:

امام نسائی بقول ابن حجر عسقلانی کے نظر جال میں انتہائی محتاط و معتمد اور اپنے تمام معاصرین میں تقدم و فضیلت کے حامل تھے۔ آپ ماہرین علوم حدیث کی نظر میں ہمیشہ محترم رہے۔

عبدادت و ریاضت:

امام نسائی کثیر الصلوٰۃ اور کثیر الصوم تھے، رات بھر عبادت میں گزارتے اور صوم داؤ دی کے طریقہ پر ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ طبعی و فطری طور پر فیاض واقع ہوئے ہیں۔ مسلمان قید یوں کو فدیہ دے کر رہا کرادیا کرتے تھے۔

وفات:

ساری زندگی زہد و روع، تقویٰ و طہارت اور اتباع اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزاری اور بالآخر دمشق میں خارجیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ آپ کے وصال کی تاریخ 13 صفر 203ھ ہے مکہ مکرمہ میں اپنی وصیت کے مطابق صفا و مرودہ کے درمیان مدفون ہوئے آپ ائمہ صحابہ سنتہ میں انہائی اہمیت و فضیلت کے حامل تھے۔

شخصیت:

حافظ ابو علی نیشاپوری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے وطن میں اور بیرونِ وطن صرف چار ائمہ حدیث دیکھے ہیں۔ نیشاپور میں محمد بن اسحاق اور ابراہیم بن ابی طالب، مصر میں نسائی اور اهواز میں عبدالان۔

اساتذہ و مشايخ:

امام نسائی نے اپنے وقت کے جن ماہرین علم حدیث سے استفادہ کیا ان میں سے بعض تبحیرین کے اسماء گرامی یہ ہیں:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 2- اسحاق بن راہویہ | 1- قتیبہ بن سعید |
| 4- عیسیٰ بن زغبہ | 3- ہشام بن عمار |
| 6- ابوکریب | 5- محمد بن نصر مروزی |
| 8- محمود بن غیلان | 7- سوید بن نصر |
| 10- علی بن حجر | 9- محمد بن بشار |
| 12- محمد بن اسماعیل بخاری | 11- ابو داؤد سلیمان بن اشعث |

(امام ذہبی۔ تذکرة الحفاظ 298/2)

تلاندہ:

امام نسائی کے کثیر التعداد تلامذہ ہیں۔ چند کے نام یہ ہیں:

- 1. عبد الکریم بن احمد نسائی
- 2. ابو بکر احمد بن محمد بن اسحاق بن انس
- 3. ابو علی الحسن بن الحضر الاسیوطی
- 4. الحسن بن رشیق العسكری
- 5. حافظ ابو القاسم اندری
- 6. علی بن ابو جعفر طحاوی
- 7. ابو بکر بن حداد فتحیہ
- 8. ابو جعفر علی
- 9. ابو علی بن ہارون
- 10. حافظ ابو علی نیشاپوری
- 11. ابو القاسم طبرانی

(ابن حجر عسقلانی۔ تہذیب التہذیب 1/37)

تصانیف:

امام نسائی متعدد کتب کے مصنف ہیں۔ چند کے نام یہ ہیں:

- 1. السنن الکبیری
- 2. الجتنی
- 3. خصائص علی
- 4. منند علی
- 5. منند مالک
- 6. منند منصور
- 7. فضائل الصحابة
- 8. کتاب التمییز
- 9. کتاب المدلسین
- 10. کتاب الفضعاء
- 11. کتاب الاخوة
- 12. مناسک حج
- 13. اسماء الرواۃ
- 14. کتاب الجرح والتعديل
- 15. مشیختہ النساء

(مولانا غلام رسول سعیدی۔ تذكرة الحمد شیخ ص ۲۹۷)

تعارف سنن نسائی:

ابتداء میں امام نسائی نے ایک بسیط کتاب علم حدیث میں تصنیف فرمائی جس میں

صحیح اور حسن روایات کو جمع فرمایا پھر امیر رملہ کی فرمائش پر اس میں سے صحیح احادیث کو منتخب کر کے ایک الگ مجموعہ حدیث تیار فرمایا۔ آئندہ کی پہلی کتاب کا نام السنن الکبریٰ اور بعد وائل صحیح احادیث پر مشتمل مجموعہ کا نام الجتنی یا الجتنی ہے۔ اسی کتاب کو السنن صغیری بھی کہا جاتا ہے اور عرف عام میں یہ السنن النسائی کے نام سے مشہور ہے۔ محدثین جب مطلق رواہ النسائی کہتے ہیں تو اس سے یہی کتاب مراد لیتے ہیں جو حدیث کی کتب صحابہ تہ میں یہی کتاب (سنن الصغری) معتبر ہے نہ کہ السنن الکبریٰ۔

شرائط:

اگرچہ امام نسائی کی شرائط کو حافظ ابو علی نیشاپوری، خطیب بغدادی اور امام ابو القاسم سعد بن علی زنجانی وغیرہ ائمہ نے امام بخاری و امام مسلم کی شرائط پر ترجیح دی ہے لیکن خود امام نسائی کا ایک قول جس کو امام سیوطی نے زہر الرتبی کے مقدمہ میں نقل فرمایا ہے جو مذکورہ بالا ائمہ کے موقف کو رد کرتا ہے۔ وہ قول یہ ہے:

لَا يُرْكُعُ عِنْدِي حَتَّى يَجْتَمِعَ الْجَمِيعُ عَلَى تَرْكِهِ.

یعنی میں ہر اس راوی کی حدیث کو قبول کر لیتا ہوں جس کے ترک پر سب کا

اجماع نہ ہوا ہو۔

اس بنیاد پر امام ابو بکر حازمی نے فرمایا کہ امام نسائی بھی امام ابو داؤد کی طرح پہلے تینوں طبقوں یعنی کامل الضبط و کثیر الملازمه، کامل الضبط و قلیل الملازمه اور ناقص الضبط و کثیر الملازمه سے استیعاب فرماتے ہیں اور چوتھے طبقہ کے راویوں یعنی ناقص الضبط و قلیل الملازمه مع اشیخ سے انتخاب فرماتے ہیں جبکہ طبقہ خامسہ کے راویوں سے بالکل روایت نہیں کرتے۔



تعارف امام ابن ماجہ

نام و نسب، ولادت اور تحصیل علم:

امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید بن عبد اللہ ابن ماجہ قزوینی رجی ۲۰۹ھ میں پیدا ہوئے علم حدیث کو حاصل کرنے کی خاطر عراق، بصرہ، کوفہ، بغداد، مکہ، ہرات، مصر، واسطہ، رے اور دیگر اسلامی شہروں کا سفر کیا۔ متعدد نافع و مفید کتب تحریر فرمائیں جن میں سے ایک سنن بھی ہے جو حدیث کی کتب صحابہ ستہ میں شمار ہوتی ہے۔ (شاہ عبدالعزیز دہلوی۔ بستان الحدیث ص ۲۹۸)

وصال:

امام ابو القاسم رفعی تاریخ قزوین میں لکھتے ہیں کہ ابن ماجہ ائمہ مسلمین کے ایک عظیم امام، شفیع شخصیت کے مالک اور اہل علم میں بے حد مقبول تھے۔ چون شہ برس کی عمر پانے کے بعد ۲۲ رمضان المبارک ۲۷۳ھ میں پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا اور منگل کے دن دفن ہوئے۔ آپ کے بھائی ابو بکر نے آپ کی نماز جناہ پڑھائی اور آپ کے صاحبزادے عبداللہ اور دو بھائیوں نے مل کر قبر میں اتارا۔ آپ کے وصال پر محمد بن الاسود قزوینی نے ایک مرثیہ لکھا جس کے چند اشعار مدرج ذیل ہیں:

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| وضع فرع رکنہ فضوا! ابن ماجہ | لقد اوہی دعائم علم |
| علینا من تخطفها ابن ماجہ | الا لله ما جنت المثایا |
| بشرح بین مثل ابن ماجہ | فمن يرجى لعلم او لحفظ |
| وما خلقت مثلک يا ابن ماجہ | ابا عبدالله مضيت فرداً |

ترجمہ: ابن ماجہ کے وصال نے سریر علم کے ارکان و ستون توڑ ڈالے ہیں۔ موت نے ابن ماجہ کو ہم سے چھین کر جوزیادتی کی ہے اس کی فریاد بس اللہ تعالیٰ ہی سے ہے۔ اب علم اور حفظ کے باب میں کس سے توقع کی جائے کہ ابن ماجہ کی سی شرح کر سکے۔ اے ابو عبد اللہ! تم اپنے دور میں یگانہ اور منفرد تھا اور تم نے اپنے بعد اپنی نظریہ نہیں چھوڑی۔

(شیخ علی بن سلیمان۔ نور مصباح الزجاجہ علی سنن ابن ماجہ ص ۳)

اساتذہ و مشائخ:

آپ کے اساتذہ و مشائخ کے نام یہ ہیں:

- | | | |
|-----|---------------------------|---------------------------|
| 1. | محمد بن عبد اللہ بن نعیم | - جبارہ بن الحفلس |
| 2. | ابراهیم بن المندز راخراہی | - عبد اللہ بن معاویہ |
| 3. | ہشام بن عمار | - محمد بن رمح |
| 4. | داود بن رشید | - ابو بکر بن ابی شیبہ |
| 5. | نصر بن علی الجھضمی | - ابو مروان محمد بن عثمان |
| 6. | محمد بن یحییٰ نیشاپوری | - احمد بن ثابت الحجری |
| 7. | ابو بکر بن خلاد بانی | - محمد بن بشار |
| 8. | علی بن منذر | - محمد بن عباد بن آدم |
| 9. | عباس بن عبد العظیم | - احمد بن عبدہ |
| 10. | یحییٰ بن حکیم | - عبد اللہ بن عامر بن زرہ |
| 11. | ابو خثیفہ زہیر بن حرب | - عثمان بن ابی شیبہ |

23- عبد اللہ بن احمد بن بشیر بن ذکوان مشتقتی 24- اسماعیل بن بشیر بن منصور

تلامذہ:

آپ کے چند تلامذہ کے نام یہ ہیں:

- 1- علی بن سعید بن عبد اللہ الفلاني
- 2- ابراہیم بن دینار الجرشی
- 3- احمد بن ابراہیم القرزوینی
- 4- ابوالظیب احمد بن روح شعرانی
- 5- اسحاق بن محمد القرزوینی
- 6- جعفر بن ادریس
- 7- سلیمان بن یزید القرزوینی
- 8- حسین بن علی بن برایناد
- 9- محمد بن عیسیٰ الصغار
- 10- ابو عمر و احمد بن محمد
- 11- حافظ ابو الحسن علی بن ابراہیم بن سلمہ القرزوینی

تصانیف:

آپ کی تین یادگار کتابیں درج ذیل ہیں:

- 1- سنن ابن ماجہ
- 2- تفسیر ابن ماجہ
- 3- التاریخ

تعارف سنن ابن ماجہ

سنن ابن ماجہ کو پانچویں صدی ہجری کے آخر میں صحابہ ستہ میں شمار کیا گیا اور اس کے بعد آنے والے ہر دور میں اس کتاب کی اہمیت و افادیت محدثین میں مسلم رہی۔ اس کتاب کی قوت و جامعیت اور افادیت و اہمیت کا اندازہ امام ابو زرعة کے ایک قول سے لگایا جاسکتا ہے جب امام ابن ماجہ نے یہ کتاب مکمل فرمائی تو اس کو امام موصوف کی خدمت میں پیش کیا۔ امام ابو زرعة نے جوں ہی اس کتاب مفید کا مطالعہ فرمایا تو پکارا ہے کہ اگر یہ کتاب

لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی تو اس دور کے اکثر جو امع اور مصنفات معطل ہو کر رہ جائیں گی۔ امام ابن ماجہ کو امام بخاری، امام ترمذی اور امام ابو داؤد کی طرح ثلاشیات کو روایت کرنے کا بھی شرف حاصل ہے۔ چنانچہ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں پانچ ثلاشیات کو روایت فرمایا بقول امام شمس الدین ذہبی کے سنن ابن ماجہ میں بتیں کتب، ایک ہزار پانچ سو (۱۵۰۰) ابواب اور کل چار ہزار (۳۰۰۰) احادیث ہیں۔

شرائط:

امام ابن ماجہ روایۃ کے انتخاب میں کافی و سعت ظرفی سے کام لیتے ہیں اور ہر قسم کے راویوں کی روایت کو قبول فرمائیتے ہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی سنن میں ایسی مرویات کو ذکر کرنا چاہتے ہیں جن کا ذکر باقی اصول میں نہ ہوا ہو چنانچہ اسی بناء پر آپ نے شدید ضعف والے راویوں کو بھی برداشت کیا ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

حافظ محمد عبدالستار قادری سعیدی

خطیب جامع مسلم مسجد بیرون لاہوری گیٹ، لاہور

۱۴۰۷ھ / ۱۹۸۷ء شعبان ۷



ـ مـاـخـذـ وـمـراـجـعـ

| مصنف | نام کتاب |
|------|--|
| -1 | القرآن الحكيم |
| -2 | امام مسلم بن حجاج قشيري المتوفى ٢٦١ھ صحیح مسلم |
| -3 | امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث المتوفى ٢٧٥ھ سنن ابو داؤد |
| -4 | امام ابو عیسیٰ محمد بن سورۃ الترمذی المتوفی ٢٧٩ھ جامع ترمذی |
| -5 | حافظ ابن حجر عسقلانی المتوفی ٨٥٢ھ تہذیب التہذیب |
| -6 | حافظ ابن حجر عسقلانی المتوفی ٨٥٢ھ حدی الساری |
| -7 | امام تاج الدین بکی المتوفی ١٧٣ھ طبقات الشافعیہ الکبریٰ |
| -8 | امام احمد بن محمد القسطلاني المتوفی ٩٢٣ھ ارشاد الساری |
| -9 | امام جلال الدین سیوطی المتوفی ٩١١ھ قوت الامتعتی |
| -10 | امام جلال الدین سیوطی المتوفی ٩١١ھ زهر الرّبیٰ علی الجتنی |
| -11 | امام ابو عبد اللہ شمس الدین ذہبی المتوفی ٧٣٨ھ تذکرة الحفاظ |
| -12 | ملالی قاری اھر وی المتوفی ١٤٠٢ھ مرقة المفاتیح |
| -13 | ملا کاتب چپی الشهیر به حاجی خلیفہ ١٤٠٢ھ کشف الظنون عن اسمی الکتب والفنون |
| -14 | شیخ عبدالحق محدث دہلوی المتوفی ١٤٥٢ھ اشعة المعمات |
| -15 | شاه عبدالعزیز محدث دہلوی المتوفی ١٤٢٩ھ بستان الحمد شین |
| -16 | طاهر بن صلاح الجزايري توجیہ انظر |
| -17 | شیخ علی بن سلیمان نور مصباح الزجاج |
| -18 | علامہ احمد سعید کاظمی المتوفی ١٤٠٦ھ مقالات کاظمی |
| -19 | مولانا غلام رسول سعیدی تذکرة الحمد شین |

مکتبہ فیض





نہ صاحب پا کیا کاملاں رہنما



نہ لذت پنچ گام ملکہ تاریخ



مکتبہ فیضِ عالم



الحمد لله رب العالمين 25 غزني شریف 40 اڑواز لاہور، پاکستان
042-7247 301, 0300 8842 540

دان اور بارگاہ شیخ بیہت کن ملائکت نامہ
042-7220939
Mobile: 0333-4503530

مکتبہ اعلیٰ حضرت

میلاد پبلیکیشنز

ملے کا پتہ